



سوال

(312) روایات میں وجہ ترجیح

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

کسی حدیث میں ایک راوی موصول اور دوسرا موقوف روایت بیان کرے تو کونسی (روایت) کو ترجیح دی جائے گی۔ موصول کو یا موقوف کو؟ تفصیل ضرور لکھیں۔ نیز زیادتی ثقہ کے بارے میں علمائے حدیث کا راجح موقف کیا ہے؟ (ایک سائل)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ میری تحقیق میں اگر موصول کا راوی ثقہ اور منقطع کے راوی ثقہ ہیں، یا مرفوع کا راوی ثقہ اور موقوف کے راوی ثقہ ہیں تو موصول و مرفوع کو ترجیح ہوگی بشرطیکہ روایت مذکورہ کو جمہور محدثین نے شاذ و معلول نہ قرار دیا ہو۔

(زیادتی ثقہ پر راقم الحروف کی مفصل تحقیق کے لیے دیکھئے تحقیقی مقالات جلد دوم: صحیح مسلم کی ایک حدیث کا دفاع)

تنبیہ:

صحیحین کی روایات کو بھی دوسری روایات پر عام ترجیح حاصل ہے۔ (شہادت فروری 2002ء)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ علمیہ

جلد 1 - اصول، تخریج اور تحقیق روایات - صفحہ 571



محدث فتویٰ